



kirkegaarde.dk

Havelodden 4

7100 Vejle

tel.: 7582 1144

fax.: 7582 7789

www.vejle-

## Vejle Kirker og Kirkegårde (Vejle churches and cemeteries)

ویجلے، 4 دسمبر 2012

### مسلمانوں کی تدفین کے علاقے پلاٹ ایریا 2 کے بارے میں ضابطے

ہر مسلمان کو، مسلمانوں کے فرقوں سے قطع نظر، ویجلے کے شمالی قبرستان (ویجلے نورڈر کرکے گارڈے) میں موجود مسلمانوں کے علاقے میں دفن کیا جا سکتا ہے۔

بچوں/ بڑوں کی تدفین کے لیے پلاٹ

1. تدفین کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ پلاٹ 20 برس کے لئے خریدے اور سلیقے سے رکھے جا سکتے ہیں (بچوں کی تدفین کے لیے پلاٹ کی مدت 10 برس ہے)۔

2. 20 برس کے لیے پلاٹ کو سلیقے سے رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں ویجلے کرکے گارڈے سے معاہدہ کرنا ضروری ہے (بچوں کی تدفین کے لیے پلاٹ کی مدت 10 برس ہے)۔

3. اس معاہدے کے تحت تدفینی پلاٹ اور مسلمانوں کے لیے مخصوص علاقے کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔

4. خریدار کو تدفینی پلاٹ کے بارے میں دستاویز جاری کی جاتی ہے اور پلاٹ مخصوص کرانے کی مدت ختم ہونے پر اس کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ دستاویز کی تجدید کم سے کم 5 برس اور زیادہ سے زیادہ بڑوں کے لیے 20 اور بچوں کے لیے 10 برس تک کے لیے کرائی جس سکتی ہے۔

5. تدفین کے بارے میں ویجلے کرکے اوگ کرکے گارڈے کو اطلاع، تدفین سے اوقات کار کے کم از کم دو دن پہلے کرائی جانی چاہئے۔

6. تدفین سے پہلے متوفی کی میت تابوت میں رکھی جانی چاہئے اور اسے قبر میں تابوت سمیت دفن کیا جانا چاہئے۔

7. قبر کو قبرستان کا عملہ بند کرے گا۔ متوفی کے رشتے دار تابوت پر مٹی ڈالنے کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔

8. تدفین کا عمل دن دو بجے ہوتا ہے۔

9. قبرستان میں داخلے کے مقام سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔



kirkegaarde.dk

Havelodden 4

7100 Vejle

tel.: 7582 1144

fax.: 7582 7789

www.vejle-

## Vejle Kirker og Kirkegårde (Vejle churches and cemeteries)

### تدفینی پلاٹ کا ڈیزائن

- 1- تدفینی پلاٹ میں ایک مرقد رکھا جانا چاہیئے جس کی اونچائی 80 سینٹی میٹر، چوڑائی 40 سینٹی میٹر اور گہرائی 10 سینٹی میٹر (بچوں کی تدفین کے لیے پلاٹ کی اونچائی 50 سینٹی میٹر، چوڑائی 30 سینٹی میٹر، گہرائی 10 سینٹی میٹر) ہونی چاہیئے۔
- 2- مرقد کسی بھی مواد سے تیار کیا جا سکتا ہے۔
- 3- تدفینی پلاٹ پر نوکیلے پتھر نہ رکھے جائیں یا پتھروں سے چٹائی نہ کی جائے۔ ویجلے کر کے کاڈے تدفینی پلاٹ کے نشان لگانے میں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ باڑ لگانے اور پھولوں یا جھاڑیوں کے پودے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔
- 4- مرقد کے سامنے آرائشی اور دوسرے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔
- 5- قبرستان کا عملہ کسی بھی نامناسب پودے یا ڈھانچے کو خبردار کئے بغیر ہٹا دے گا۔

**ویجلے، 4 دسمبر 2012**  
**ویجلے قبرستان کا بورڈ**